



سوال

(431) جس امام کے اہل خانہ بے پردہ ہوں اس کی اقتدا کا حکم

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

شیخ الحدیث مولانا حافظ ثناء صاحب...!! ایک حافظ قرآن امامت کروانا ہے اس کی بیوی، ماں، ہمشیرگان وغیرہ پردہ نہیں کرتیں، ایسے حافظ، واعظ کو امام بنانا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

امام صاحب کو چاہیے کہ مشاراً الیہ عورتوں کو پردے کی تلقین کرتے رہیں۔ اس طرح ان کا فرض ادا ہو جائے گا، اور ان کی امامت بھی درست ہوگی۔ لیکن اگر وہ اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے رہیں، تو گناہ میں وہ بھی شریک سمجھے جائیں گے اور ایسے امام سے واقعتاً نفرت کا اظہار ہونا چاہیے۔ حالات کے پیش نظر اسے معزول بھی کیا جاسکتا ہے۔

ہذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ حافظ ثناء اللہ مدنی

کتاب الصلوٰۃ: صفحہ: 376

محدث فتویٰ